

ستمبر 2020

ضلع 20 کے مکرمی اہل خانہ:

میرا نام Dr. Joseph O'Brien ہے اور بطور ضلع 20 عبوری قائم مقام اجتماعی مہتمم کے اپنا تعارف کروانا میرے لیے انتہائی اعزاز اور باعث امتیاز ہے۔ میں آپ کے ساتھ ضلعی دفتر، ہمارے اسکولوں اور ہمارے خاندانوں کی عمدہ برادریوں کے مابین شمولیت کو فروغ دینے کے لیے شراکت کا متمنی ہوں۔

میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے متعدد گھیرا ہٹ محسوس کر رہے ہیں، ہمارے پرنسپل، نائب پرنسپل، اساتذہ اور اسکول کے عملے نے 16 ستمبر، 2020 کو ریموٹ طلبا کے لیے اور 21 ستمبر، 2020 کو بلیٹڈ شیڈول والے طلبا کے لیے اسکول کھلنے والے دن کو محفوظ، پُر معنی اور کامیاب بنانے کے لیے انتھک محنت کی ہے۔

میں آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کام کرنے اور ابلاغ کے نئے راستے تعمیر کرنے کا متمنی ہوں، تاکہ ہم اپنے تمام طلبا کی بہبود کے لیے ملکر کام کر سکیں۔

برائے مہربانی توجہ کریں، ہم ضلع 20 مساوات کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں جو 30 ستمبر، 2020 کو دوپہر 1 بجے ملاقات کرے گی، میں آپ کو شامل ہونے کے لیے خوش آمدید کرتا ہوں تاکہ ہم تمام طلبا، بشمول کم نمائندگی کردہ آبادیوں والے طلبا کی مدد کرنے کے طریقوں پر نظر ڈال سکیں۔

اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو براہ مہربانی مجھے jobrien17@schools.nyc.gov پر ای میل کریں بمع اپنے نام، اپنے بچے (بچوں) کے نام اور D20 کا اسکول جس میں وہ جاتے ہیں۔

مزید، میں آپ کو ہماری نقل وطن والدین مشاورتی کونسل اور اجتماعی تعلیمی کونسل (CEC) کے اجلاسوں میں اس سال ہمارے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے اسکول گھر اور ہمارے خاندانوں کے مابین تعلق ایک اہم تعلق ہے اور میں آپ سے ہر ایک کو D20 کے ہنرمند اساتذہ، نائب پرنسپل حضرات اور پرنسپل حضرات کے ساتھ آج ایک بہتر کل تعمیر کرنے کے لیے شامل ہونے پر زور دیتا ہوں۔

آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں گفتگو جاری رکھنے کا متمنی ہوں۔

مجھ سے jobrien17@gmail.com ای میل کے ذریعے ہمیشہ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔

بہترین تمناؤں کے ساتھ،

Joseph O'Brien, Ed.D.
ضلع 20 اجتماعی مہتمم (IA)